

کوچ



رحمدلی قابل



قابل ۶

رحمدلی بمقابلہ موازنے

بادشاہ طالوت اور داؤد

1 سموئیل 16-5:18

یاد کرنے کی آیت :

- گلتیوں 4:6

اکھاڑے میں

”پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے۔ اس صورت میں اُسے
اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہو گا نہ کہ دوسرے کی
بابت۔“

ہفتے کی ابتدا میں اپنے پاس 20 گیندیں رکھیں۔ جب بھی آپ اپنے اپنا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنے لگیں، ان گیندوں میں سے ایک گیند لیں۔ اس موازنہ میں فیس بک یا دوسری آن لائن ایپلیکیشنز شامل ہیں جہاں ہم اکثر اپنا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو پورے ہفتے کے لیے فیس بک سے آف لائن ہوجائیں۔

کوچ کے پرچے "روح کے پہل سے بہادروں" کو خوش آمدید! آپ کا مقصد اپنے طالب علموں کو بہادر بننے میں مدد دینا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر روز کے عمل میں روح کا پہل ڈالیں۔

بہت سے اتوار اسکول کے پروگرام چرچ میں ہوتے ہیں اور اس میں ن ہفتے کے دوران گھر کے کام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا آپ کے طالب علم یہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں گناہوں کو "ناک آؤٹ" نہیں کر سکتے۔ انہیں لازمی حقیقت میں "رنگ میں" آنا ہوگا اور اصل گناہ سے لڑیں

ا ہوگا جس کا وہ ہفتے کے دوران مقابلہ کریں گے۔ یہ سچ ہے کہ کوئی ان نظر نہ رکھے تو یہ تقریباً ناممکن ہوگا۔ مہربانی فرما کر ان کے "لفظوں پر بھروسہ نہ کریں" بلکہ جب طالب علم کہیں کہ انہوں نے اپنا اسائنمنٹ کر لیا ہے تو اسے قبول کریں۔ اگر آپ اس پروگرام سے لاپرواہ ہوجائیں گے تو اس کا مطلب ہو گا کہ آپ اپنے طالب علموں کو جھوٹ بولنا سیکھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تصور کریں کہ اگر

ر آپ واقعی اپنے طالب علموں کے کوچ ہوسکتے ہیں اور راہ پر ہوں تو وہ اپنا گھر کا کام کرتے رہیں تو آپ ان کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی دیکھ لیں گے۔ صرف 1 سال میں، آپ ان کی زندگی بدل سکتے ہیں! آپ کے طالب علم روح کا پہل یاد نہیں کریں گے لیکن حقیقت میں انہوں نے اس میں رہنا سیکھنا ہوگا۔

آپ کی ذمہ داریاں اپنے بچوں کے گروہ کے کوچ بنیں۔ ہر ہفتے کلاس سے 5 منٹ پہلے اور بعد میں طالب علموں سے ملیں اور اسائنمنٹ پر بحث کریں اور بہادر بننے کے لئے ان کی حوصلہ افزائیں کریں۔

ہفتے وار طالب علموں کو ان کی اسائنمنٹ کی یاد دہانی کے لئے فون کریں یا پیغام بھیجیں۔ (منگل تجویز کیا گیا ہے)

ہفتے میں دوسری بار طالب علم کو اپنی کئے ہوئے اسائنمنٹ کی رپورٹ لینے کے لئے فون کریں یا پیغام بھیجیں۔ (جمعہ تجویز کیا گیا ہے)

چھوٹے گروہ میں بچوں نے جو اسائنمنٹ کی ہیں ان کو دیکھتے رہیں اور اس کی ہفتہ وار رپورٹ لینے کے لئے فون کریں یا پیغام بھیجیں۔

ہمارا خداوند آپ کو متاثر کرے جیسے آپ نے روح کے پہل میں اپنے طالب علموں کو سیکھانے کا چیلنی ج قبول کیا ہے۔

انعامات: کوچ ہونے کی حیثیت سے ایک بہت اہم بات کہ اپنے طالب علموں کو احساس دلانے میں مدد دیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ی ہے کہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ انہیں تفصیل سے بتائیں کہ آپ ان کا رویہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں اس رویے پر انع ام دیں۔

چھوٹے ہفتے وار انعامات کے لگانا

- (اوپر ہاتھ کر کے ملانا (ہائی فائیو)
- ان کی قمیضوں پر اسٹیکر لگانا
- ہاتھ پر مہر لگانا
- تھوڑی مٹھائی

مہینے کے آخر میں بڑے انعامات: تقریب انعامات میں بچوں کو سونے، چاندی اور کانسی کے میڈل دئے جائیں گے۔ (کانسی کا میڈل 3 ہفتوں کی اسائنمنٹ پورا کرنے والوں کو، چاندی کا 4 ہفتوں والوں کو اور سونے کا 5 ہفتوں والوں کو۔ یا دوسری صورت میں، آپ ہر ہفتے کانسی کا 2 پنچ کے لئے، چاندی کا 3 پنچ کے لئے اور سونے کا 4 پنچ کے لئے دے سکتے ہیں۔ اپنے گھر پر تقریب اسناد

بڑے چرچ میں بالغوں کے سامنے کچھ بڑا دیں۔ ٹرافیوں



7 قابل

رحمدلی بمقابلہ دھوکہ

پیٹر یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے

متی 26:31-35، 69-75

یاد کرنے کی آیت : زبور 4:26

”میں بے ہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ میں
ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔“

اکھاڑے میں

اس ہفتے، کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس سے آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ اُسے سچ بتائیں۔ اپنے جھوٹ پر معذرت کریں اس سے معافی کی درخواست کریں۔ جتنی بار آپ واپس جا کر سچ بولیں گے اتنی بار اس گناہ کے خلاف آپ کی فتح ہوگی۔



8 قابل

رحمدلی بمقابلہ لاتعلقی

روت اور نعومی

روت 1:8-22

یاد کرنے کی آیت :

- امثال 27:3

”بھلائی کے حق دار سے اُسے دریغ نہ کرنا جب
تیرے مقدور میں ہو۔“

اکھاڑے میں

کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جس کی آپ مدد کرسکیں خاص طور پر اس صورت میں جب وہ ”آپ کا مسئلہ نہ ہو۔“ گلی میں موجود بے گھر فرد کی مدد کریں، یا بوسکتا ہے سکول میں بچے کو ایک نئی پنسل یا مٹانے والی ربڑ کی ضرورت ہو۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوں اور ان کی مدد کرنا آپ کی ذمہ داری یا ضرورت نہ ہو۔



9 قابل

رحمدلی بمقابلہ بُغض

عیسوت اپنے لوگوں کو بچاتی ہے

عیسوت 3-5

یاد کرنے کی آیت : ومیوں کے نام 14:15

”اور آئے میرے بھائیو! میں خود بھی تمہاری نسبت
یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام
معرفة سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت
بھی کر سکتے ہو۔“

اکھاڑے میں

اس ہفتے کسی شخص کو ایسے کسی دوسرے شخص سے بچائیں جو بغیر کسی وجہ کے اس سے کمینگی/بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو بچاتے ہوئے ہم اپنے دلوں میں موجود گناہوں سے بھی لڑیں گے۔ کسی دوسرے شخص کو بچاتے ہوئے اپنی شہرت کو خطرے میں ڈالیں۔



طالب



2

1

قابل

قابل

9 8 7 6

9 8 7 6

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار

آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

4

3

قابل

قابل

9 8 7 6

9 8 7 6

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار

آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

6

5

قابل

قابل

9 8 7 6

9 8 7 6

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار

آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

